



سوال

(351) مقتول کے مال کی تقسیم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے ہاں ایک قتل ہوا، مقتول کے ورثاء نے مبلغ دو لاکھ پچاس ہزار دیت لے کر قاتل معاف کر دیا، مقتول کے ورثاء میں والدہ، بیوہ، دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ اب کیا دیت کی رقم وراثت کی طرح تقسیم ہوگی یا صرف بچوں کے لیے ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

دیت لے کر قاتل کا خون معاف کر دینا صحیحی بات ہے۔ قرآن کریم نے اس کی صراحت کی ہے۔ اب دیت کی رقم ورثاء میں بطور ترکہ تقسیم ہوگی، صرف اولاد کے لیے مخصوص نہیں کی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک دیت کی رقم مقتول کے ورثاء کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی کیونکہ وہ قرابت دار ہیں، قرابت داروں سے جو بچ جائے وہ عصبہ رشتہ داروں کے لیے ہوگا۔“ [1]

اس طرح حدیث میں ہے کہ اشیم ضبابی رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت سے اس کی بیوی کو وارث بنایا تھا۔ [2]

ان مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ مقتول کی دیت بطور وراثت ہوگی، البتہ اگر قاتل قرابت داروں سے ہے تو اسے وراثت سے کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اقدام قتل سے خود کو محروم کر لیا ہے، صورت مسؤلہ میں بیوہ کو آٹھواں، ماں کو چھٹا حصہ اور باقی اولاد میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ بیٹے کو بیٹی سے دو گنا ملے۔ سہولت کے پیش نظر دیت کی رقم کو چوبیس میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ دس ہزار چار صد سولہ روپے چھٹا سٹھ پیسے ہے، تین حصے بیوہ کے لیے یعنی 31250/- روپے حصے والدہ کے لیے یعنی 41666/- روپے اور باقی سترہ حصے یعنی 177084/- روپے اولاد کے لیے ہیں۔ اس رقم کو اولاد میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ بیٹے کو بیٹی سے دو گنا حصہ یعنی 29514/- روپے فی لڑکی اور 59028/- روپے فی لڑکا تقسیم کر دیے جائیں۔ مقتول کی دیت کے علاوہ باقی جائیداد بھی مذکورہ حصص کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ (واللہ اعلم)

[1] البوداود، الدیات: ۳۵۶۲۔

[2] ابن ماجہ، الدیات: ۲۶۳۲۔



هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاوى اصحاب الحديث

جلد: 3، صفحہ نمبر: 305

محدث فتویٰ